



مجھ پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مجھ پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں ایک مہینہ کی مسافت تک رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی اور پوری زمین میرے لیے مسجد اور حصول پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی چنانچہ میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو (جہاں بھی) پالے، اسے وہیں نماز ادا کر لینی چاہیے میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی غنیمت کا مال حلال نہ تھا مجھے شفاعت عطا کی گئی دیگر انبیا اپنی اپنی قوموں کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے، لیکن مجھے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے"

[صحیح] [متفق علیہ]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے آپ کو ایسی پانچ چیزیں عطا کی ہیں، جو اللہ نے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی تھیں 1- مجھے مدد کے طور پر رعب دیا گیا ہے، جو میرے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، خواہ ان کے اور میرے درمیان ایک مہینہ کی مسافت ہی کیوں نہ ہو 2- ہمارے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا گیا ہے کہ ہم جہاں چاہیں، نماز پڑھ لیں اسی طرح پانی کے استعمال کی قدرت نے ہونے کی صورت میں اسے پاکی کے حصول کا ذریعہ بھی بنایا گیا ہے 3- ہمارے لیے جنگ سے حاصل ہونے والے اموال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے اموال غنیمت سے مراد دراصل وہ اموال ہیں، جو مسلمانوں کو کفار سے جنگ کے وقت حاصل ہوتے ہیں 4- مجھے قیامت کے دن کی بول ناکوں سے لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے شفاعت عظمیٰ دی گئی ہے 5- مجھے تمام جنوں اور انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے جب کہ مجھ سے پہلے آنے والے نبی اپنی اپنی قوموں کے لیے نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3503>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

